



## سوال

(287) ذکر کرنے کا ایک غلط انداز

## جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

کیا ذکر کا یہ طریقہ بھی دین میں سے ہے جس پر مصر اور اس کے دیہاتی علاقوں میں بعض لوگ عمل کرتے ہیں یعنی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دائیں بائیں جھومتے ہوئے لفظ ”اللہ“ کا ذکر کرتے ہیں۔

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ہماری معلومات کے مطابق اسلام میں اس عمل کی کوئی اصل نہیں۔ بلکہ یہ بدعت ہے جو شریعت اسلامی کے خلاف ہے، لہذا اس پر عمل کرنے والوں کو اس سے روکنا ضروری ہے۔ خصوصاً جب کہ ہمیں منع کرنے کی طاقت حاصل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا بَدَأَ مَا لَيْسَ مِنْهُ فَمُورَدٌ))

”جس نے ہمارے دین میں وہ چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں تو وہ ناقابل قبول ہے۔“

یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ اس مفہوم کی اور بھی احادیث موجود ہیں۔

وَبِاللّٰهِ التَّوْفِیْقِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

الجبیتہ الدائمہ، رکن: عبداللہ بن قعود، عبداللہ بن غدیان، نائب صدر: عبدالرزاق عقیفی، صدر: عبدالعزیز بن باز۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ ابن باز رحمہ اللہ



جلد دوم - صفحہ 323

محدث فتویٰ